

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا

برامپٹن، آن (24 مارچ 2020) – آج سٹی کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد اور سٹی کی ایمرجنسی مینجمنٹ ٹیم کی سفارش پر، میئر پیٹرک براؤن نے سٹی کے [ایمرجنسی مینجمنٹ پلان](#) کے تحت سٹی آف برامپٹن میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔

یہ کرونا وائرس (کووڈ-19) کے پھیلاؤ کو روکنے میں صوبہ اونٹاریو اور ریجن آف پیل کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔

یہ اعلان سٹی کو کرونا وائرس کے اثرات کو روکنے میں مدد کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے زیادہ لچک اور رفتار فراہم کر کے ہنگامی ردعمل کی موجودہ کوششوں میں معاونت فراہم کرے گا۔

سٹی آف برامپٹن روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری بنیادی اور اہم خدمات فراہم کر کے عوام کی معاونت جاری رکھے گا، بشمول برامپٹن، ٹرانزٹ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور ہائی لاء اینڈ انفورسمنٹ، جو یقینی بناتی ہے کہ پورے شہر میں ہنگامی خدمات تک رسائی دستیاب ہو۔

سٹی برامپٹن کے رہائشیوں کو باخبر رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور کووڈ-19 کے خلاف اپنے ردعمل کے حوالے سے خبروں کے دستیاب ہوتے ہی فراہم کرتا رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے، www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں یا ہمیں [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر فالو کریں۔

اقتباسات

"آج کا اعلان سٹی کو کووڈ-19 کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے زیادہ لچک اور رفتار فراہم کر کے ہنگامی ردعمل کی موجودہ کوششوں میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کی حفاظت کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں اور سٹی اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں، لہذا اس وقت براہ مہربانی گھروں پر رہیں۔ ہم سب ایک شہر کے طور پر مل کر اس سے گزریں گے۔"

پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کی انتظامیہ نے کووڈ-19 کے ردعمل میں ہمارے ایمرجنسی رسپانس پلان کو 13 مارچ کو درجہ 2 پر فعال کیا، جسے 17 مارچ کو درجہ 1 میجر ایمرجنسی پر بڑھا دیا گیا۔ آج کا اعلان سٹی کے عملے کو اس صورتحال کا مؤثر طور پر اور تیزی سے ردعمل دینے کے لیے اضافی مستعدی فراہم کرتا ہے اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سٹی اس معاملے اور ہمارے عملے اور اس عوام، جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، کی حفاظت کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔"

ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19](#)
- [پیل پبلک ہیلتھ - نوول کرونا وائرس \(COVID-19\)](#)
- [پراویس آف اونٹاریو: منسٹری آف ہیلتھ - نوول کرونا وائرس \(COVID-19\)](#)

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca